

گرامر کا سبق-15a: لَن + مضارع تین حرفی افعال کے ساتھ

اس سبق میں ہم تین حرفی افعال (صحت مند اور کمزور) کے ساتھ ”لَن“ سیکھیں گے۔ ”لَن“ ہتھوڑی کی طرح کام کرتا ہے، ہم نے گزشتہ سبق میں دیکھا کہ ”لَن“ نے فعل مضارع کے آخر میں موجود پیش کو زبر میں بدل دیا، نیز یَفْعَلُونَ اور تَفْعَلُونَ کے آخر کے نون کا بھی یہ حال کرتی ہے کہ وہ الف بن جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یَفْعَلُونَ اور تَفْعَلُونَ پر قبیحی اور ہتھوڑی کا اثر ایک جیسا ہوتا ہے۔ یہاں ہم تین حروف والا صحت مند فعل ”یَفْعَلُ“ کو لے کر مشق کرتے ہیں:

عربی بول چال

لَنْ يَفْعَلَ	هَلْ يَفْعَلُ؟
لَنْ يَفْعَلُوا	هَلْ يَفْعَلُونَ؟
لَنْ أَفْعَلَ	هَلْ تَفْعَلُ؟
لَنْ نَفْعَلَ	هَلْ تَفْعَلُونَ؟

لَن + مُضَارِع	
لَنْ يَفْعَلُ = لَنْ يَفْعَلُ	وہ ہرگز نہیں کرے گا
لَنْ يَفْعَلُونَ = لَنْ يَفْعَلُوا	وہ سب ہرگز نہیں کریں گے
لَنْ تَفْعَلُ = لَنْ تَفْعَلُ	آپ ہرگز نہیں کریں گے
لَنْ تَفْعَلُونَ = لَنْ أَفْعَلَ	میں ہرگز نہیں کروں گا
لَنْ تَفْعَلُونَ = لَنْ تَفْعَلُوا	آپ سب ہرگز نہیں کریں گے
لَنْ نَفْعَلُ = لَنْ نَفْعَلُ	ہم ہرگز نہیں کریں گے
لَنْ تَفْعَلُ = لَنْ تَفْعَلُ	وہ عورت ہرگز نہیں کرے گی

یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ یَفْعَلُونَ اور تَفْعَلُونَ پر قبیحی اور ہتھوڑی کا اثر یکساں ہوتا ہے جیسا کہ نیچے دی گئی پہلی قرآنی مثال میں ظاہر ہے۔

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا	وَإِذْ قُلْتُمْ يَمْؤِسِي لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ
پس اگر نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے	اور جب تم لوگوں نے کہا اے مؤسٰیؑ ہم ایک کھانے پر صبر ہرگز صبر نہیں کریں گے

اب ہم ایک دوسرا تین حروف والا صحت مند فعل لیتے ہیں: ”يَسْمَعُ“۔

عربی بول چال

(تصور کیجیے کہ بری بات سننے کے بارے میں بات ہو رہی ہے)

لَنْ يَسْمَعَ	هَلْ يَسْمَعُ؟
لَنْ يَسْمَعُوا	هَلْ يَسْمَعُونَ؟
لَنْ أَسْمَعَ	هَلْ تَسْمَعُ؟
لَنْ نَسْمَعَ	هَلْ تَسْمَعُونَ؟

لَن + مُضَارِع	
لَنْ يَسْمَعَ = لَنْ يَسْمَعَ	وہ ہرگز نہیں سنے گا
لَنْ يَسْمَعُونَ = لَنْ يَسْمَعُوا	وہ سب ہرگز نہیں سنیں گے
لَنْ تَسْمَعُ = لَنْ تَسْمَعُ	آپ ہرگز نہیں سنیں گے
لَنْ تَسْمَعُونَ = لَنْ أَسْمَعَ	میں ہرگز نہیں سنوں گا
لَنْ تَسْمَعُونَ = لَنْ تَسْمَعُوا	آپ سب ہرگز نہیں سنیں گے
لَنْ نَسْمَعَ = لَنْ نَسْمَعَ	ہم سب ہرگز نہیں سنیں گے
لَنْ تَسْمَعُ = لَنْ تَسْمَعُ	وہ ہرگز نہیں سنے گی

اب ہم ایک تین حرفی کمزور فعل ”يَقُولُ“ لیتے ہیں:

عربی بول چال

(تصور کیجیے کہ بری بات کہنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے)

هَلْ يَقُولُ؟ لَنْ يَقُولَ

هَلْ يَقُولُونَ؟ لَنْ يَقُولُوا

هَلْ تَقُولُ؟ لَنْ أَقُولَ

هَلْ تَقُولُونَ؟ لَنْ نَقُولَ

+ فِعْلٌ مُضَارِعٌ

لَنْ + يَقُولُ = لَنْ يَقُولَ وہ ہرگز نہیں کہے گا

لَنْ + يَقُولُونَ = لَنْ يَقُولُوا وہ سب ہرگز نہیں کہیں گے

لَنْ + تَقُولُ = لَنْ تَقُولَ آپ ہرگز نہیں کہیں گے

لَنْ + أَقُولُ = لَنْ أَقُولَ میں ہرگز نہیں کہوں گا

لَنْ + تَقُولُونَ = لَنْ تَقُولُوا آپ سب ہرگز نہیں کہیں گے

لَنْ + نَقُولُ = لَنْ نَقُولَ ہم سب ہرگز نہیں کہیں گے

لَنْ + تَقُولُ = لَنْ تَقُولَ وہ عورت ہرگز نہیں کہے گی

لَنْ، اَنْ کی مثالیں قرآن کریم سے:

أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَتَّخِذُوا اٰمَنًا وَهُمْ لَا يُفْعَلُونَ وَأَنَا ظَنُّنَا اَنْ لَنْ تَقُولَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اللّٰهِ كَذِبًا

کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اس لیے کہ وہ کہہ دیں ہم ایمان لائے ہیں اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے اور ہم نے گمان کیا کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے

اب ہم ایک دوسرا تین حرفی کمزور فعل لیتے ہیں: ”يَأْتِي“۔ (آتی: وہ آیا، آتی بد: وہ لایا)

+ فِعْلٌ مُضَارِعٌ

لَنْ + يَأْتِي = لَنْ يَأْتِيَ وہ ہرگز نہیں آئے گا

لَنْ + يَأْتُونَ = لَنْ يَأْتُوا وہ سب ہرگز نہیں آئیں گے

لَنْ + تَأْتِي = لَنْ تَأْتِيَ آپ ہرگز نہیں آئیں گے

لَنْ + اَتِي = لَنْ اَتِيَ میں ہرگز نہیں آؤں گا

لَنْ + تَأْتُونَ = لَنْ تَأْتُوا آپ سب ہرگز نہیں آئیں گے

لَنْ + نَأْتِي = لَنْ نَأْتِيَ ہم سب ہرگز نہیں آئیں گے

لَنْ + تَأْتِي = لَنْ تَأْتِيَ وہ عورت ہرگز نہیں آئے گی

اَنْ کی مثال قرآن سے

هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا اَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ

اَوْ يَأْتِي رَبُّكَ اَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيٰتِ رَبِّكَ

کیا وہ لوگ انتظار کرتے ہیں صرف اس کا کہ آئیں ان کے

پاس فرشتے یا آجائے ان کے پاس آپ کا رب یا آپ کے رب

کی کچھ نشانیاں